

فعل

فعل: وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی زمانے میں معلوم ہو جیسے: نعیم آیا۔ طاہر نے کتاب پڑھی۔
فعل کا تعلق زمانے کے ساتھ ہوتا ہے اور زمانے کی تین قسمیں ہیں۔

۱۔ زمانہ ماضی: جو گزر چکا ہے، اسے زمانہ ماضی کہتے ہیں۔

۲۔ زمانہ حال: وہ زمانہ جو موجود ہے، اسے زمانہ حال کہتے ہیں۔

۳۔ زمانہ مستقبل: آئندہ زمانے کو زمانہ مستقبل کہتے ہیں۔

فعل کی قسمیں

(۱) فعل ماضی (۲) فعل حال (۳) فعل مستقبل (۴) فعل مضارع (۵) فعل امر (۶) فعل نبی
(۷) فعل لازم (۸) فعل متعدد (۹) فعل معروف (۱۰) فعل مجبول (۱۱) فعل تمام (۱۲) فعل ناقص
یہ یاد رہے کہ فعل کے لیے فاعل کی بھی مختلف حالتیں ہوتی ہیں مثلاً غائب، حاضر، متكلّم اور پھر واحد ہو گا یا جمع ہو گا چنانچہ فعل کی چھے صورتیں اور درجے ہو جائیں گے جیسے:

(۱) واحد غائب (۲) جمع غائب (۳) واحد حاضر (۴) جمع حاضر (۵) واحد متكلّم (۶) جمع متكلّم

ان درجوں کو صیغہ کہتے ہیں کسی فعل کو ان صیغوں میں تبدیل کرنا گردان کہلاتا ہے۔

فعل ماضی

وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا گز رے ہوئے زمانے میں معلوم ہو جیسے: ندیم گیا۔ فریدہ خط لکھتی تھی۔

فعل ماضی کی قسمیں: (۱) ماضی مطلق (۲) ماضی قریب (۳) ماضی عیید (۴) ماضی شکریہ (۵) ماضی تمنائی (۶) ماضی استمراری

(۱) ماضی مطلق: وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا صرف گز رے ہوئے زمانے میں معلوم ہو لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ گزر اہوا زمانہ نزدیک کا ہے یا دور کا۔ مثلاً وہ آیا تم گئے۔

ماضی مطلق بنانے کے طریقے: (i) بعض مصوروں کے آخر سے ”نا“، ہٹا کر ”الف“، لگا دینے سے ماضی مطلق بن جاتی ہے جیسے:

لکھنا سے لکھا۔ پڑھنا سے پڑھا۔ دوڑنا سے دوڑا۔ لکھا، پڑھا اور دوڑا ماضی مطلق ہے۔

(ii) بعض مصوروں کے آخر سے ”نا“، ہٹا کر ”یا“، لگا دینے سے ماضی مطلق بن جاتی ہے جیسے:

کھانا سے کھایا۔ رونا سے رویا۔ آنا سے آیا۔ کھایا، رویا اور آیا ماضی مطلق ہے۔

(iii) جانا اور کرنا مصادر کی ماضی مطلق ان کے خلاف آتی ہے جانا سے ”گیا“، ماضی مطلق ہے اور کرنا سے ”کیا“، ماضی مطلق ہے۔

”لکھنا“ مصدر سے ماضی مطلق کی گردان

جنس	واحد غائب	جمع غائب	واحد حاضر	جمع حاضر	واحد متكلم	جمع متكلم
ذکر	اس نے لکھا	انہوں نے لکھا	تم نے لکھا	ٹو نے لکھا	میں نے لکھا	ہم نے لکھا
مؤنث	اس نے لکھا	انہوں نے لکھا	تم نے لکھا	ٹو نے لکھا	میں نے لکھا	ہم نے لکھا

(۲) ماضی قریب: وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا زدیک کے گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو جیسے: نہیم آیا ہے۔ فرح گئی ہے۔
ماضی قریب بنانے کا طریقہ: ماضی مطلق کے آخر میں ”ہے“ لگادینے سے ماضی قریب بن جاتی ہے۔

”آننا“ مصدر سے ماضی قریب کی گردان

جنس	واحد غائب	جمع غائب	واحد حاضر	جمع حاضر	واحد متكلم	جمع متكلم
ذکر	وہ آئے ہیں	وہ آئے ہیں	تم آئے ہو	ٹو آیا ہے	میں آیا ہوں	ہم آئے ہیں
مؤنث	وہ آئی ہیں	وہ آئی ہیں	تم آئی ہو	ٹو آئی ہے	میں آئی ہوں	ہم آئی ہیں

(۳) ماضی بعید: وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا دیر کے گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو جیسے: مقیم نے لکھا تھا۔
ماضی بعید بنانے کا طریقہ: ماضی مطلق کے آخر میں ”تھا“ لگادینے سے ماضی بعید بن جاتی ہے۔

”جانا“ مصدر سے ماضی بعید کی گردان

جنس	واحد غائب	جمع غائب	واحد حاضر	جمع حاضر	واحد متكلم	جمع متكلم
ذکر	وہ گئے تھے	وہ گئے تھے	ٹو گیا تھا	تم گئے تھے	میں گیا تھا	ہم گئے تھے
مؤنث	وہ گئی تھیں	وہ گئی تھیں	ٹو گئی تھیں	تم گئی تھیں	میں گئی تھیں	ہم گئی تھیں

(۴) ماضی شکیہ: وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا گزرے ہوئے زمانے میں شک معلوم ہو۔ جیسے: اس نے خط لکھا ہوگا۔
ماضی شکیہ بنانے کا طریقہ: ماضی مطلق کے آخر میں ”ہوگا“ لگادینے سے ماضی شکیہ بن جاتی ہے۔

”لکھنا“ مصدر سے ماضی شکیہ کی گردان

جنس	واحد غائب	جمع غائب	واحد حاضر	جمع حاضر	واحد متكلم	جمع متكلم
ذکر	اس نے لکھا ہوگا	انہوں نے لکھا ہوگا	ٹو نے لکھا ہوگا	تم نے لکھا ہوگا	میں نے لکھا ہوگا	ہم نے لکھا ہوگا
مؤنث	اس نے لکھا ہوگا	انہوں نے لکھا ہوگا	ٹو نے لکھا ہوگا	تم نے لکھا ہوگا	میں نے لکھا ہوگا	ہم نے لکھا ہوگا

* * * * *

(۵) ماضی تمنائی: و فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو، تمنا یا شرط معلوم ہو جیسے: کاش! وہ محنت کرتا۔ اگروہ آتا۔
ماضی تمنائی یا شرطیہ بنانے کا طریقہ: مصدر کے آخر میں ”نا“، ”ہٹا کر“ تا، ”لگادیتے ہیں اور شروع میں ”کاش یا اگر“ لگادیتے ہیں۔ اس طرح
ماضی تمنائی یا شرطیہ بن جاتی ہے۔

”پڑھنا“ مصدر سے ماضی تمنائی کی گردان

جنس	واحد غائب	جمع غائب	واحد حاضر	جمع حاضر	واحد متكلم	جمع متكلم
ذکر	کاش! وہ پڑھتے	کاش! تم پڑھتے	کاش! تو پڑھتا	کاش! تم پڑھتے	کاش! میں پڑھتا	کاش! ہم پڑھتے
مؤنث	کاش! وہ پڑھتیں	کاش! تم پڑھتیں	کاش! تو پڑھتی	کاش! تم پڑھتی	کاش! میں پڑھتیں	کاش! ہم پڑھتیں

”پڑھنا“ مصدر سے ماضی شرطیہ کی گردان

جنس	واحد غائب	جمع غائب	واحد حاضر	جمع حاضر	واحد متكلم	جمع متكلم
ذکر	اگروہ پڑھتے	اگروہ پڑھتے	اگر تو پڑھتا	اگر تم پڑھتے	اگر میں پڑھتا	اگر ہم پڑھتے
مؤنث	اگروہ پڑھتیں	اگروہ پڑھتیں	اگر تو پڑھتی	اگر تم پڑھتیں	اگر میں پڑھتیں	اگر ہم پڑھتیں

(۶) ماضی استمراری: و فعل ہے جس سے کسی کام کا کرنا گزرے ہوئے زمانے میں لگاتار اور مسلسل معلوم ہو جیسے: وہ لکھتا تھا۔
ماضی استمراری بنانے کا طریقہ: مصدر کے آخر سے ”نا“، ”ہٹا کر“ تا، ”لگادینے“ سے ماضی استمراری بن جاتی ہے۔

”دوڑنا“ مصدر سے ماضی استمراری کی گردان

جنس	واحد غائب	جمع غائب	واحد حاضر	جمع حاضر	واحد متكلم	جمع متكلم
ذکر	وہ دوڑتے تھے	وہ دوڑتے تھے	تو دوڑتا تھا	تو دوڑتے تھے	میں دوڑتا تھا	ہم دوڑتے تھے
مؤنث	وہ دوڑرہاتھا	وہ دوڑرہاتھا	تو دوڑرہاتھا	تو دوڑرہاتھے	میں دوڑرہاتھا	ہم دوڑرہاتھے

فعل حال

و فعل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا موجودہ زمانے میں معلوم ہو جیسے: فوز یہ کتاب پڑھتی ہے۔ فریدہ مضمون لکھ رہی ہے۔
فعل حال بنانے کا طریقہ: مصدر کے آخر سے ”نا“، ”ہٹا کر“ تا، ”لگادینے“ سے فعل حال اور ”رہا ہے“ لگادینے سے فعل حال جاری بن جاتا ہے۔

”کھیانا“، مصدر سے فعل حال اور فعل حال جاری کی گردان

جنس	زمانہ	فعل حال	فعل حال جاری	فعل حال	فعل حال جاری	فعل حال	فعل حال جاری
		ذکر	مؤنث				
واحد متكلم	جمع متكلم	میں کھلیتے ہوں	ہم کھلیتے ہیں	تم کھلیتے ہو	تو کھلیتے ہے	وہ کھلیتے ہیں	وہ کھلیتے ہے
واحد متكلم	جمع حاضر	میں کھلیل رہا ہوں	ہم کھلیل رہے ہیں	تم کھلیل رہے ہو	تو کھلیل رہے ہے	وہ کھلیل رہے ہیں	وہ کھلیل رہے ہے
واحد متكلم	جمع غائب	میں کھلیق ہوں	ہم کھلیق ہیں	تم کھلیق ہو	تو کھلیق ہے	وہ کھلیق ہیں	وہ کھلیق ہے
واحد متكلم	واحد غائب	میں کھلیل رہی ہوں	ہم کھلیل رہی ہیں	تم کھلیل رہی ہو	تو کھلیل رہی ہے	وہ کھلیل رہی ہیں	وہ کھلیل رہی ہے

فعل مستقبل

وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا آئندہ زمانے میں معلوم ہو جیسے: رضوان ملتان جائے گا۔

فعل مستقبل بنانے کا طریقہ: مصدر کے آخر سے ”نا“ ہٹا کر ”ے“ کا دینے سے فعل مستقبل بن جاتا ہے۔

”لکھنا“، مصدر سے فعل مستقبل کی گردان

جنس	واحد غائب	جمع غائب	واحد حاضر	جمع حاضر	واحد متكلم	جمع متكلم
	وہ لکھے گا	وہ لکھیں گے	تو لکھے گا	تم لکھو گے	میں لکھوں گا	ہم لکھیں گے
ذکر	وہ لکھے گا	وہ لکھیں گے	تو لکھے گا	تم لکھو گے	میں لکھوں گا	ہم لکھیں گے
مؤنث	وہ لکھی گی	وہ لکھیں گی	تو لکھی گی	تم لکھو گی	میں لکھوں گی	ہم لکھیں گی

فعل مضارع

وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا موجودہ اور آئندہ زمانے میں معلوم ہو جیسے: عدنان آئے۔ ”آئے“ فعل مضارع ہے۔

فعل مضارع بنانے کا طریقہ: مصدر کے آخر سے ”نا“ ہٹا کر ”ے“ کا دینے سے فعل مضارع بن جاتا ہے۔

”کھانا“، مصدر سے فعل مضارع کی گردان

مضارع	حاضر	غائب	متكلم
واحد غائب	واحد حاضر	جمع غائب	واحد متكلم
وہ کھائے	تم کھاؤ	میں کھاؤں	ہم کھائیں
وہ کھائے	تم کھائے	میں کھائیں	ہم کھائیں

فعل امر

وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا حکم معلوم ہو جیسے: تو آ۔ تم کھاؤ۔

* * * * *

فعل امر بنانے کا طریقہ: مصدر کے آخر سے ”نا“ ہٹا کر جو باقی بچے فعل امر واحد حاضر کا صیغہ ہوگا۔ فعل امر کے حقیقت میں دو صیغے واحد حاضر اور جمع حاضر ہوتے ہیں کیوں کہ حکم حاضر اور موجود کو یا جاتا ہے چنانچہ باقی صیغہ فعل مضارع کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ گردان سے ظاہر ہے۔

”آنا“ مصدر سے فعل مضارع کی گردان

مشکل		حاضر		غائب	
جمع مشکل	واحد مشکل	جمع حاضر	واحد حاضر	جمع غائب	واحد غائب
ہم آئیں	میں آؤں	تم آؤ	تو آ	وہ آئے	وہ آئے

فعل نبی

وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے کا حکم معلوم ہو جیسے: تو نہ جا۔ تم مت آؤ۔

فعل نبی بنانے کا طریقہ: فعل امر کے شروع میں ”نہ“ یا ”مت“ لگادینے سے فعل نبی بن جاتا ہے۔ اس کی حالت بھی فعل امر کی طرح ہے۔

”لکھنا“ مصدر سے فعل نبی کی گردان

مشکل		حاضر		غائب	
جمع مشکل	واحد مشکل	جمع حاضر	واحد حاضر	جمع غائب	واحد غائب
ہم نہ لکھیں	میں نہ لکھوں	تم مت لکھو	تو مت لکھ	وہ نہ لکھیں	وہ نہ لکھے

فعل لازم

وہ فعل ہے جو صرف فعل کو چاہے جیسے: نہیں پہنچا۔ گھوڑا دوڑا۔ ان دونوں جملوں میں ”ہنسا“ اور ”دوڑا“ دونوں فعل لازم ہیں کیوں کہ نہیں اور گھوڑا دونوں فعل ہیں جن کا ذکر کر دینے کے بعد فعلوں کے معانی پرے ہو گئے۔ آیا۔ گیا۔ دوڑا۔ چلا۔ ہنسا۔ رویا۔ بھاگا۔ غیرہ سب فعل لازم ہیں۔

فعل متعددی

وہ فعل ہے جو فعل کے ساتھ مفعول بھی چاہے جیسے: استاد نے سبق پڑھایا۔ اس جملے میں ”پڑھایا“، فعل متعددی ہے۔ استاد فعل ہے جس کے ذکر کرنے کے بعد سبق جو مفعول ہے کے ذکر کیے بغیر فعل کے معنی مکمل نہیں ہوتے۔ چنانچہ لکھا۔ پڑھا۔ کھایا۔ پیا۔ بیٹھا۔ دیکھا۔ غیرہ سب فعل متعددی ہیں۔

فعل معروف

وہ فعل ہے جس کا فعل معلوم ہو جیسے طاہرہ آئی۔ اس جملے میں ”آئی“، فعل معروف ہے کیوں کہ اس کا فعل ”طاہرہ“ معلوم ہے۔

* * * * *